



Australian Government


آپ کو کرونا وائرس سے بچانے کے لیے۔



باقاعدگی سے سطحیں صاف کرتے رہیں



باقاعدگی سے صابن اور پانی سے
ہاتھ دھوتے رہیں



لوگوں سے فاصلہ برقرار رکھیں



COVIDSAFE ایپ ڈاؤن لوڈ کریں



اگر آپکی طبیعت خراب ہو تو گھر میں رہیں
اور ٹیسٹ کروائیں



اپنی بازو کی اوٹ میں کھانسیں یا چھینکیں



BE COVIDSAFE

کرونا وائرس (COVID-19)، کے بارے میں مزید معلومات کے لیے
براہ مہربانی [health.gov.au](https://www.health.gov.au) دیکھیں